

13 اگست 2018

ستمبر کے مہینے میں خدمات کی بہتریاں: زوم بوویرڈ (Züm Bovaird) میں توسیع اور بچوں کے کرایوں میں کمی

برامپٹن، آن – برامپٹن ٹرانزٹ اپنے سواروں کو ان کی منزلوں تک بر وقت، آرامدہ طریقے سے اور بحفاظت پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ 4 ستمبر سے آغاز کے بعد ہماری سروس میں بہتریوں میں زوم بوویرڈ کی ایک توسیع اور بچوں کے لیے تخفیف شدہ PRESTO کرایے شامل ہیں۔

سرخیاں:

- نئی 505 زوم بوویرڈ ایئرپورٹ روڈ کی مالٹن گو اسٹیشن تک توسیع
- نیا ماؤنٹ پلیزنٹ ویلج کی مشرقی جانب 27 رابرٹ پارکنسن روٹ
- نیا برامپٹن گیٹ وے ٹرمینل سے 54 کاؤنٹی کورٹ روٹ
- نیا برامپٹن گیٹ وے ٹرمینل سے 56 کنگ ٹول روٹ
- 501 زوم کوئین اب ووغان میٹروپولیٹن سنٹر ریڈ وے اسٹیشن پر جا کر ختم ہوتی ہے، جو TTC سب وے سے براہ راست مربوط ہے۔ یہ روٹ اب یارک یونیورسٹی تک نہیں جائے گا۔
- موجودہ طور پر 501A/C زوم کوئین اضافی اوقات کار کے ساتھ یارک یونیورسٹی کے لیے اپنی خدمات فراہم کرنا جاری رکھے گی

6 سے 12 سال کی عمر کے درمیان کے بچوں کے لیے PRESTO کرایہ کم ہو جائے گا:

کرایوں کا زمرہ	موجودہ	3 ستمبر سے
فی سفر	\$2.50	\$2.00
ہفتہ وار پاس	\$27.00	\$22.00
ماہوار پاس	\$105.00	\$84.00

دیگر کئی راستوں پر بھی مزید تبدیلیاں 4 ستمبر سے لاگو ہوں گی۔ مکمل معلومات bramptontransit.com پر اور برامپٹن ٹرانزٹ کے تازہ ترین ریڈ اینڈ رائیڈ (Read & Ride) رسالے میں دستیاب ہیں۔

برامپٹن ٹرانزٹ کا کسٹمر چارٹر 2018 سروس پلان کے نفاذ کے لیے پرعزم ہے، جس میں 65,000 گھنٹوں کے اوقات کار کا اضافہ شامل ہے – ان میں سے زیادہ تر ستمبر کے مہینے میں سروس میں تبدیلیوں کا حصہ ہیں۔ کسٹمر چارٹر کے بارے میں bramptontransit.com پر مزید پڑھیں یا brampton.ca/citydashboard پر جا کر اس بارے میں جانیں کہ کارکردگی میں کیسے بروقت بہتری پیدا ہو رہی ہے۔

--30--

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔